



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

October 01, 2025

SHARIAH APPROVAL FOR INVESTMENTS OF FUND UNDER MANAGEMENT OF HBL ASSET MANAGEMENT LIMITED

Islamic Unit Trusts managed by **HBL Asset Management Limited (HBL)** are based on the principle of **Investment Agency Contract (Wakalat-ul-Istismar)** and have been designed strictly in conformity with the rules of Islamic Shariah.

Under the investment agency contract, the unit holder on investing his money becomes the principal (Muakkil) and HBL acts as the agent (Wakeel) to manage the investments of the Muakkil.

All investment of the following unit trust:

- **HBL Islamic Income Fund**
- **HBL Islamic Stock Fund**
- **HBL Islamic Asset Allocation Fund**
- **HBL Islamic Asset Allocation Fund Plan-1**
- **HBL Islamic Asset Allocation Fund Plan-2**
- **HBL Islamic Money Market Fund**
- **HBL Islamic Equity Fund**
- **HBL Islamic Saving Fund plan 1**
- **HBL Islamic Livestock Fund**
- **HBL Islamic Fixed Term Fund - Plan I**
- **HBL Islamic Pension Fund**
- **HBL KPK Islamic Pension Fund -Money Market Sub Fund**

Funds received are not on Qardh (loan), all funds are invested in Shariah-compliant contracts on behalf of investors under the supervision of the Shariah Advisor. The investment mechanisms, procedures, and constitutive documents of the unit trusts have been vetted and approved in line with Shariah principles, and the funds' operations are regularly reviewed by Shariah advisor for compliance.

Keeping in view all the funds managed by HBL Asset Management Limited are Shariah-compliant and free from Riba (interest), Gharar (uncertainty), and Qimaar (gambling), with no element repugnant to Shariah principles or the Guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

انچینی ایل فنڈز کے اسلامی فنڈز کی شریعہ منظوری

انچینی ایل فنڈز کے زیر انتظام اسلامی اجتماعی سرمایہ کاری اسکیمیں / اسلامی میوچل فنڈز و کالٹ الاسٹھمار کے اصولوں پر منظم ہیں اور یہ فنڈز اسلامی شریعت پر سختی سے کار بند ہیں۔ وکالت الاسٹھمار کی بنیاد پر سرمایہ کار اس فنڈ میں مؤکل کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ انچینی ایل فنڈز بطور وکیل اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔

ان زیر نظر فنڈز کی سرمایہ کاری اسلامی شریعہ کے عین مطابق ہوتی ہے۔ مستند مفتیان کرام ان فنڈز کی دستاویزات کی تصدیق کرتے ہیں اور ان فنڈز کی سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو طے کرتے ہیں، مزید یہ کہ ان فنڈز کے تمام لین دین کی باقاعدگی سے نگرانی کی جاتی ہے تاکہ مؤکل (سرمایہ کار) کی سرمایہ کاری کو اجتماعی انداز میں منظم اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاسکے۔

اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مندرجہ ذیل اسلامی میوچل فنڈز کی تمام سرمایہ کاریاں:

- انچینی ایل اسلامک منی مارکیٹ فنڈ
- انچینی ایل اسلامک انکم فنڈ
- انچینی ایل اسلامک اسٹاک فنڈ
- انچینی ایل اسلامک ایکو نیٹی فنڈ
- انچینی ایل اسلامک ایسٹ ایلیو کیشن فنڈ
- انچینی ایل اسلامک ایسٹ ایلیو کیشن فنڈ پلان ۱
- انچینی ایل اسلامک ایسٹ ایلیو کیشن فنڈ پلان ۲
- انچینی ایل لائیو اسٹاک فنڈ
- انچینی ایل اسلامک پنشن فنڈ
- انچینی ایل اسلامک فکسڈ ٹرم پلان (۱) فنڈ
- انچینی ایل کے پی کے اسلامک پنشن فنڈ۔ منی مارکیٹ سب فنڈ
- انچینی ایل اسلامک سیونگ فنڈ پلان (۱) فنڈ

شریعت کے مطابق ہیں۔

اسلامی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کی صورت میں موصول ہونے والی رقم عقد و کالٹ بالاسٹھمار کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہیں، نہ کہ قرض کی بنیاد پر۔ تمام فنڈز کی سرمایہ کاریاں شریعت کے مطابق اثاثوں اور عقود میں، سرمایہ کاروں کی جانب سے اور مستند مفتیان کرام کی زیر نگرانی، فراہم کردہ شرعی ہدایات کے مطابق کی جاتی ہیں۔

اسلامی میوچل فنڈز کے سرمایہ کاری کے طریقہ کار، ضوابط، اور بنیادی دستاویزات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور انہیں شرعی اصولوں کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ مزید برآں، ان فنڈز کی سرگرمیوں کا باقاعدہ طور پر مستند مفتیان کرام کے ذریعے جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ان فنڈز کا نظام مسلسل شریعت کے مطابق رہے۔

مندرجہ بالا امور کے پیش نظر؛

انچینی ایل ایسٹ منیجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام تمام اسلامی میوچل فنڈز شرعی اصولوں کے مطابق ہیں اور ان میں ربا (سود)، غرر (غیر یقینی معاملات) اور قمار (جوا) کا کوئی پہلو شامل نہیں،

نیز ان میں کوئی ایسا عنصر موجود نہیں جو شرعی اصولوں یا سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی شرعی ہدایات کے منافی ہو۔

Mufti Irshad Ahmad Aijaz
Member Shariah Council



Faraz Younus Bandukda, CFA
Chief Executive

والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم

For and on behalf of Al-Hilal Shariah Advisors (Pvt.) Limited. This fatwa is Valid for a period of one year and will expire on **September 30, 2026**

الہلال شریعہ ایڈوائزرز کی جانب سے یہ فتویٰ ایک سال کے لیے قابل قبول ہے اور اسکی میعاد ۳۰ ستمبر ۲۰۲۶ تک ہے۔

Al-Hilal Shariah Advisors (Pvt) Limited

Suite # 406-407, 4th Floor, Horizon Towers, Com 2/6, Khayaban-e-Saadi,

Block 03 Clifton, Karachi

Tel:+92-21-35305931-37, Web: www.alhilalsa.com